



کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے کراچی کنگز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا

- میچ میں کامیابی کے باوجود دفاعی چیمپئن سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں ناکام

کراچی، 15 مارچ 2020ء :

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے آخری گروپ میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے کراچی کنگز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ میچ میں کامیابی کے باوجود دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم کم رن ریٹ کے باعث ایونٹ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل نہ کر سکی۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے 151 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ شین واٹسن اور خرم منظور نے نصف سنچریاں بنائیں۔

سیمی فائنل میں رسائی کے لیے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو مطلوبہ ہدف 20 گیندوں پر حاصل کرنا تھا۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کنگز کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو مڈل آرڈر بیٹسمین کیمرون ڈیلپورٹ کے علاوہ کنگز کا کوئی بلے باز بھی زیادہ دیر وکٹ پر نہ ٹھہر سکا۔

تیس رنز پر ابتدائی دو وکٹیں (شرجیل خان 0 اور افتخار احمد 21) گنوانے کے بعد کراچی کنگز کے کیمرون ڈیلپورٹ نے میدان کا رخ کیا۔ انہوں نے اوپنر بابر اعظم اور مڈل آرڈر بلے باز چیڈوک والٹن کے ہمراہ بالترتیب 42 اور 73 رنز کی شراکت قائم کر کے ٹیم کا مجموعہ 150 کے پاس پہنچایا۔

کیمرون ڈیلپورٹ نے 44 گیندوں پر 5 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 62 رنز کی اننگز کھیلی۔ بابر اعظم 32 اور چیڈوک والٹن 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

کراچی کنگز نے مقررہ بیس اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز بنائے۔ اسامہ میر 1 اور محمد رضوان بغیر کوئی رنز بنائے کریز پر موجود رہے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے نسیم شاہ نے 2 جبکہ فواد احمد، محمد حسنین اور سہیل خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے اوپنر احمد شہزاد بغیر کوئی رنز بنائے پولین واپس لوٹے تو شین واٹسن نے خرم منظور کے ہمراہ جارحانہ انداز اپناتے ہوئے 118 رنز کی شراکت قائم کی۔

شین واٹسن نے 194 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 7 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 66 رنز بنائے۔ خرم منظور 9 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 63 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس دوران سرفراز احمد 2 اور بین کٹنگ صفر رنز بنا کر پولین واپس لوٹے۔

139 کے مجموعے پر 5 وکٹیں گنوانے کے بعد کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 34 گیندوں پر 12 رنز درکار تھے۔ اعظم خان نے 12 اور محمد نواز نے 8 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر ٹیم کو فتح دلادی۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے 16.2 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنا کر فتح حاصل کر لی۔

کراچی کنگز کے ارشد اقبال اور وقاص مقصود نے 2،2 جبکہ علی خان نے ایک وکٹ حاصل کی۔

شین واٹسن کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔

ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل منگل کی دوپہر 2 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، جہاں ملتان سلطانز کی ٹیم سابقہ چیمپئن پشاور زلمی کے خلاف میدان میں اترے گی۔ ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل اسی روز شام 7 بجے کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے مابین کھیلا جائے گا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-t20.com ●
@thePSLT20 ●
@thePSL ●
PakistanSuperLeague ●
@thePSL ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4